

Urdu (اردو)

## تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر

آمین  
سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا فضل ، اور خدا کی محبت ، اور روح القدس کی میل جول آپ سب کے ساتھ

ہیں اور اپنی روح کے ساتھ  
تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئیے ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کریں ، اور اس طرح مقدس اسرار کو منانے کے لئے خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہوں اور آپ کے لئے ، میرے بھائیو اور بہنیں ، کہ میں نے بہت گناہ کیا ، خیالات میں اور میرے الفاظ میں ، میں نے کیا کیا اور میں کیا کرنے میں ناکام رہا ہوں ، میری غلطی کے ذریعے ، میری غلطی کے ذریعے ، میری انتہائی تکلیف دہ غلطی کے ذریعے ؛ لہذا میں مبارک مریم کو ہمیشہ کے لیے پرگین سے پوجھتا ہوں ، تمام فرشتے اور سنت ، اور آپ ، میرے بھائیو اور بہنیں ، میرے لئے خداوند مار خدا سے دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ، مار گناہوں کو معاف کرے ، اور ہمیں لازوال زندگی میں لائیں

آمین  
کیری

Latvian (latviešu valoda)

## Ievada rituāli

Krusta zīme

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.

Āmens  
Sveiciens

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, un Dieva mīlestība, un Svētā Gara kopība esi ar tev visiem.

Un ar savu garu.  
Senitenciālais akts

Brāļi (brāļi un māšas), atzīsim mūsu grēkus, Un tāpēc sagatavojieties svinēt svētos noslēpumus.

Es atzīstos visvarenajam Dievam Un jums, mani brāļi un māšas, ka es esmu ļoti grēkojis, Manās domās un vārdos, ko esmu izdarījis un ko es neesmu izdarījis, caur manu vainu, caur manu vainu, caur manu vissmagāko vainu; Tāpēc es jautāju svētītajai Marijai Evervirgin, visi eņģeļi un svētie, Un jūs, mani brāļi un māšas, lūgt mani par Kungu, mūsu Dievu.

Lai Visvarenais Dievs mūs apžēlojas, piedod mums mūsu grēkus, un nogādā mūs mūžīgā dzīvē.

Āmens  
Kirijis

Urdu (اردو)

رب رحم کر  
رب رحم کر  
مسیح، رحم کرو.  
مسیح، رحم کرو.  
رب رحم کر  
رب رحم کر  
گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور  
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے امن  
تیری تعریف کرتے ہیں، تم آپ کو  
برکت دیتے ہیں، تم آپ کو پسند کرتے  
ہیں، تم تیری تسبیح کرتے ہیں، تم  
تیری عظیم شان کے لیے تیرا شکر ادا  
کرتے ہیں، خداوند خُدا، آسمانی  
بادشاہ، خدا، قادر مطلق باپ  
خداوند یسوع مسیح، اکلوتا بیٹا،  
خُداوند خُدا، خُدا کا بیٹا، باپ کا بیٹا،  
آپ دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،  
تم پر رحم فرما آپ دنیا کے گناہوں  
کو دور کرتے ہیں، ہماری دعا قبول  
کرو تم باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھو،  
تم پر رحم فرما۔ آپ کے لیے اکیلا ہی  
مقدس ہیں، صرف تُو ہی رب  
صرف آپ ہی اعلیٰ ترین ہیں  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح  
القدس کے ساتھ، خدا باپ کے جلال  
میں آمین  
جمع کریں

میں نمازی پڑھ دو۔

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام  
خدا کا شکر  
ذمہ داری زبور  
دوسری پڑھنا

Latvian (latviešu valoda)

Kungs, apžēlojies.  
Kungs, apžēlojies.  
Kristu, apžēlojies.  
Kristu, apžēlojies.  
Kungs, apžēlojies.  
Kungs, apžēlojies.  
Glorija

Gods Dievam augstībā, un miers virs  
zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs jūš  
slavējam, mēs tevi svētījam, mēs tevi  
dievinām, mēs tevi slavējam, mēs  
pateicamies jums par jūsu lielo slavu,  
Kungs Dievs, debesu ķēniņš, Ak Dievs,  
visvarenais Tēvs. Kungs Jēzus Kristus,  
vienpiedzimušais dēls, Kungs Dievs,  
Dieva Jērs, Tēva Dēls, tu atņem  
pasaules grēkus, apžēlojies par mums;  
tu atņem pasaules grēkus, pieņem  
mūsu lūgšanu; jūs sēžat pie Tēva labās  
rokas, apžēlojies par mums. Jo tu  
vienīgais esi Svētais, Tu vienīgais esi  
Tas Kungs, tu viens esi Visaugstākais,  
Jēzus Kristus, ar Svēto Garu, Dieva  
Tēva godībā. Āmen.

Savākt

Lūgsimies.

Āmen.

Vārda liturģija

Pirmais lasījums

Tā Kunga vārds.

Paldies Dievam.

Atbildētais psalms

Otrais lasījums

Urdu (اردو)

رب کا کلام  
خدا کا شکر  
انجیل

رب آپ کے ساتھ  
اور اپنی روح کے ساتھ  
N کے مطابق مقدس انجیل سے ایک  
پڑھنا  
ا رب، تیری شان  
خداوند کی انجیل  
خداوند یسوع مسیح آپ کی ستائش  
کریں  
ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر  
مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بنا  
والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں  
میں سے میں ایک خداوند یسوع  
مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا  
اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ  
سے پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی  
سے روشنی، سچے خدا سے سچے خدا،  
پیدا ہوا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ  
مطابقت رکھتا ہے اُس کے ذریعے  
تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں  
کے لیے اور ہماری نجات کے لیے  
آسمان سے نیچے آیا، اور روح القدس  
کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا،  
اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر  
پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب  
ہوا، اس کی موت ہوئی اور اس  
دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ  
اُٹھا صحیفوں کے مطابق اور آسمان  
پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ پر  
بیٹھا ہے اور پھر جلال میں آئے گا  
زندہ اور مرد کا فیصلہ کرنا اور اس  
کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہو  
گی میں روح القدس پر یقین رکھتا  
ہوں، خداوند، زندگی دینے والا، جو

Latvian (latviešu valoda)

Tā Kunga vārds.  
Paldies Dievam.  
Evaņģēlijs

Tas Kungs lai ir ar jums.  
Un ar savu garu.  
Svētā evaņģēlija lasījums saskaņā ar  
N.  
Slava tev, Kungs  
Tā Kunga evaņģēlijs.  
Slava tev, Kungs Jēzu Kristu.

Ticības profesija

Es ticu vienam Dievam, visvarenais  
Tēvs, debesu un zemes radītājs, no  
visām redzamajām un neredzamajām  
lietām. Es ticu vienam Kungam Jēzum  
Kristum, Dieva vienpiedzimušais dēls,  
dzimis no Tēva pirms visiem laikiem.  
Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas,  
paties Dievs no patiesā Dieva, dzimis,  
nav radīts, ar Tēvu viendabīgs; caur  
viņu viss tapa. Mūsu, cilvēku dēļ, un  
mūsu pestīšanas dēļ viņš nāca no  
debesīm, un ar Svēto Garu tika  
iemiesots no Jaunavas Marijas, un  
kļuva par cilvēku. Mūsu dēļ viņš tika  
sists krustā Poncija Pilāta vadībā, viņš  
cieta nāvi un tika apglabāts, un trešajā  
dienā augšāmcēlās saskaņā ar  
Svētajiem Rakstiem. Viņš uzkāpa  
debesīs un sēž pie Tēva labās rokas.  
Viņš nāks atkal godībā tiesāt dzīvos un  
mirušos un viņa valstībai nebūs gala.  
Es ticu Svētajam Garam, Kungam,  
dzīvības devējam, kas nāk no Tēva un  
Dēla, kas kopā ar Tēvu un Dēlu tiek  
pielūgts un pagodināts, kas ir runājis

Urdu (اردو)

باپ اور بیٹہ سے نکلتا ، جو باپ اور  
بیٹہ کے ساتھ سجد اور جلالی ،  
جس نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا  
میں ایک، مقدس، کیتھولک اور  
رسولی چرچ پر یقین رکھتا ہوں میں  
گناہوں کی معافی کے لیے ایک ہیپتسم  
کا اقرار کرتا ہوں اور میں مُردوں  
کے جی اُٹھنے کا منتظر ہوں اور آج  
والی دنیا کی زندگی آمین

homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

ا رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خُدا ہمیشہ کے لیے مُبارک و

دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بھائیو)، کے

میری اور تمہاری قربانیوں کو سکتا

اللہ کو قبول و قادر مطلق باپ۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے اس

کے نام کی تعریف اور جلال کے لیے ،

ہماری بھلائی کے لیے اور اس کے تمام

مقدس چرچ کی بھلائی

آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ و

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م اُن کو رب کی طرف اُٹھاتے ہیں

آئیے ہم رب اپنے خدا کا شکر ادا

کریں

یہ صحیح اور منصفانہ

پاک، مقدس، پاک رب الافواج

آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور

ہیں حسنِ اعلیٰ میں مبارک و

Latvian (latviešu valoda)

caur praviešiem. Es ticu vienai, svētai,  
katoļu un apustuliskai Baznīcai. Es  
atzīstu vienā Kristībā grēku piedošanai  
un es gaidu mirušo augšāmcelšanos  
un nākamās pasaules dzīvi. Āmen.

Homīlija

Universālā lūgšana

Mēs lūdzam To Kungu.

Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.

Euharistijas liturģija

Piedāvājums

Lai Dievs svētīts mūžīgi.

Lūdzieties, brāļi (brāļi un māsas), ka  
mans un tavš upuris var būt Dievam  
pieņemami, visvarenais Tēvs.

Lai Tas Kungs pieņem upuri no jūsu  
rokām par viņa vārda slavu un slavu,  
mūsu labā un visas viņa svētās  
Baznīcas labums.

Āmen.

Euharistiskā lūgšana

Tas Kungs lai ir ar jums.

Un ar savu garu.

Paceliet savas sirdis.

Mēs tos paceļam pie Tā Kunga.

Pateiksimies Tam Kungam, mūsu  
Dievam.

Tas ir pareizi un taisnīgi.

Svētais, svētais, svētais Dievs Cebaots.

Debesis un zeme ir tavas godības  
pilnas. Hozanna augstākajā līmenī.

Urdu (اردو)

جو خداوند ک نام پر آتا حسد  
اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہیں ا  
رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ کریں  
جب تک آپ دوبارہ نہ آئیں یا: جب  
م یہ روٹی کھاتے ہیں اور یہ پیالہ  
پیتے ہیں، م تیری موت کا اعلان  
کرتے ہیں، ا رب، جب تک آپ دوبارہ  
نہ آئیں یا: ہمیں بچا، دنیا کی نجات  
دند، آپ کی صلیب اور قیامت کی  
طرف سے آپ نہ ہمیں آزاد کیا  
آمین

اجتماعی رسم

نجات دند ک حکم پر اور خدائی  
تعلیم ک ذریعہ تشکیل دیا گیا، م  
یہ کذ کی جسارت کرتے ہیں:

مار باپ، جو آسمان پر ہیں،  
مقدس تیرا نام! تیری بادشاہی  
آؤ، آپ کی مرضی پوری ہو جائے  
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں  
آج کے دن میں ہماری روز کی  
روٹی دے، اور ہماری خطائیں معاف  
فرما، جیسا کہ ہم ان لوگوں کو  
معاف کرتے ہیں جو ہمارے خلاف گنا  
کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ  
ڈال، لیکن ہمیں برائی سے بچا

میں برائی سے نجات دے، ا رب،  
م دعا کرتے ہیں، م ربانی سے ہمارے  
دنوں میں امن عطا فرما، کہ تیری  
رحمت سے ہم ہمیشہ گنا سے آزاد  
ہو سکتے ہیں اور تمام پریشانیوں  
سے محفوظ جیسا کہ ہم مبارک امید  
کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے  
نجات دند، یسوع مسیح کی آمد  
بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال آپ  
کا اب اور ہمیشہ کے لئے۔

Latvian (latviešu valoda)

Svētīgs, kas nāk Tā Kunga vārdā.  
Hozanna augstākajā līmenī.

Ticības noslēpums.

Mēs pasludinām tavu nāvi, ak Kungs,  
un apliecināt savu augšāmcelšanos  
līdz tu atkal atnāksi. Vai: Kad mēs  
ēdam šo maizi un dzeram šo kausu,  
mēs pasludinām tavu nāvi, ak Kungs,  
līdz tu atkal atnāksi. Vai: Glāb mūs,  
pasaules Pestītāj, par tavu krustu un  
augšāmcelšanos tu esi mūs atbrīvojis.

Āmen.

Komūnijas rituāls

Pēc Pestītāja pavēles un ko veidojusi  
dievišķā mācība, mēs uzdrošināties  
teikt:

Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai  
top Tavs vārds; lai nāk tava valstība,  
tavs prāts lai notiek uz zemes, kā tas ir  
debesīs. Mūsu dienīško maizi dod  
mums šodien, un piedod mums mūsu  
pārkāpumus, tāpat kā mēs piedodam  
tiem, kas pret mums pārkāpuši; un  
neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī  
mūs no ļauna.

Atpestī mūs, Kungs, mēs lūdzam, no  
visa ļaunuma, dāvā mieru mūsu  
dienās, ka ar tavas žēlastības  
palīdzību, mēs vienmēr varam būt brīvi  
no grēka un pasargāts no visām  
bēdām, kad mēs gaidām svētīgo  
cerību un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus  
atnākšana.

Karalistei, spēks un slava ir jūsu tagad  
un vienmēr.

## Urdu (اردو)

خداوند يسوع مسيح، جس نے آپ کو رسولوں سے کہلا کر امن میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اپنا امن میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت دیکھو لیکن آپ کو چرچ کے ایمان پر، اور فضل سے اس امن اور اتحاد عطا فرمائے، آپ کی مرضی کے مطابق۔ جو ہمیشہ اور ابد تک زندہ اور حکومت کرتے ہیں

آمین

خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے

اور اپنی روح کے ساتھ

آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان پیش کریں

خدا کے بڑے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے بڑے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے بڑے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہو، ہمیں امن عطا فرما۔

خدا کے بڑے کو دیکھو، اس کو دیکھو

جو دنیا کے گناہوں کو لے جاتا

مبارک ہیں وہ لوگ جو بڑے کے

عشائیہ کے لیے بلائیں گے

اے رب، میں اس لائق نہیں ہوں کہ

تم میری چہت کے نیچے داخل ہو،

لیکن صرف لفظ کے ساتھ اور میری جان

ٹھیک ہو جائے گی

مسیح کا جسم (خون)

آمین

میں نماز پڑھتا ہوں۔

آمین

## اختتامی رسومات

برکت

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

## Latvian (latviešu valoda)

Kungs Jēzus Kristus, kas teica saviem apustuļiem: Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, neskaties uz mūsu grēkiem, bet uz jūsu Baznīcas ticību, un laipni dāvā viņai mieru un vienotību saskaņā ar jūsu gribu. Kas dzīvo un valda mūžīgi mūžos.

Āmen.

Tā Kunga miers lai vienmēr ar jums.

Un ar savu garu.

Piedāvāsim viens otram miera zīmi.

Dieva Jērs, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva Jērs, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva Jērs, Tu nes pasaules grēkus, dod mums mieru.

Lūk, Dieva Jērs, redzi to, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi ir tie, kas aicināti uz Jēra mielastu.

Kungs, es neesmu cienīgs ka tev jāieiet zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele tiks dziedināta.

Kristus Miesa (asinis).

Āmen.

Lūgšimies.

Āmen.

## Ritu noslēgšana

Svētība

Tas Kungs lai ir ar jums.

Un ar savu garu.

## Urdu (اردو)

قادر مطلق خدا آپ کو خوش رکھ ،  
باپ، اور بیٹا، اور روح القدس  
آمین  
برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم و گیا یا:  
جاؤ اور خداوند کی انجیل کا اعلان  
کرو یا: سکون سے جاؤ، اپنی زندگی  
سے خداوند کی تمجید کرو یا: سکون  
سے جاؤ  
خدا کا شکر .

## Latvian (latviešu valoda)

Lai visvarenais Dievs jūs svētī, Tēvs un  
Dēls, un Svētais Gars.

Āmen.

Atlaišana

Uz priekšu, Mise ir beigusies. Vai arī: ej  
un pasludini Tā Kunga evaņģēliju. Vai  
arī: ejiet ar mieru, pagodinot Kungu ar  
savu dzīvi. Vai arī: ej ar mieru.

Paldies Dievam.

[massineverylanguage.com](http://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC